

گورنمنٹ آف انڈیا وہاں پوری  
سہولیتیں آمدورفت کی بہم پہنچانے  
کے لئے دیلوے لائن بنانے میں کہیں  
پس و پیش کر رہی ہے - جبکہ اسے  
ہمارا علاقہ واپس لینے کے لئے اپنے وعدہ  
کو اور ذمہ داری کو پورا کرنا ہے - میں  
آنریبل منسٹر صاحب سے درخواست  
کروں گا کہ ماسکوپیور .....

[For English translation, see Appendix VII,  
Annexure No. 60.]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Will the hon.  
Member take some more time?

SARDAR BUDH SINGH: Tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a  
message to be read.

# MESSAGE FROM THE HOUSE OF THE PEOPLE.

## THE DISPLACED PERSONS (CLAIMS) SUP- PLEMENTARY BILL, 1953

SECRETARY: Sir, I have to report to the  
Council the following message received from  
the House of the People, signed by the  
Secretary to the House:

In accordance with the provisions of rule  
132 of the Rules of Procedure and Conduct  
of Business in the House of the People, I  
am directed to enclose herewith a copy of  
the Displaced Persons (Claims)  
Supplementary Bill, 1953, which has been  
passed as amended by the House at its sit-  
ting held on the 23rd February 1954."

I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House  
stands adjourned till 2 P. M. tomorrow.

The Council	then adjourn
ed till two of	the clock on
Thursday, the	25th February
1954.	